

بینک الحبیب لمیٹڈ
بینک چارجز کا شیڈول
یکم جولائی 2024 تا 31 دسمبر 2024

بین الاقوامی بینکاری

A درآمدات

I کیش لیٹرز آف کریڈٹ

AA۔ اوپننگ

سالانہ حجم / تقویمی سال کے دوران تکمیل شدہ کاروبار:

کم از کم (کمیشن)	ہر اگلی سہ ماہی یا اس کا حصہ	پہلی سہ ماہی
کم از کم 2,500 روپے	0.25 فیصد	0.40 فیصد
کم از کم 2,500 روپے	0.20 فیصد	0.30 فیصد
کم از کم 2,500 روپے	0.10 فیصد	0.17 فیصد

- a۔ 10 ملین روپے تک
b۔ 10 ملین روپے سے زائد سے 100 ملین روپے تک
c۔ 100 ملین روپے سے زائد

نوٹ: اگر دوران سال صارف / گروپ کے ایل سی کاروبار کا مجموعی حجم 200 ملین روپے سے تجاوز کرتا ہے تو درج بالا کمیشن مجاز عہدیدار سے منظوری حاصل کرنے کے بعد ایڈجسٹمنٹ سے مشروط ہے۔

وہی کمیشن ہوگا جو نئی ایل سیز کے کھلنے پر قابل اطلاق ہے۔

درج بالا AA-I

1.00 فیصد	0.30 فیصد	1500 روپے
-----------	-----------	-----------

AB۔ زائد المیعاد ختم ایل سیز کی توثیق نو یا نئے پیفیشری کو منتقل کرنا

I I بارٹر امداد / قرضوں کے تحت ناقابل ادائیگی ایل سیز:

III ترامیم:

a۔ اگر رقم اور / یا مدت ملوث نہ ہو

b۔ اگر رقم اور / یا مدت میں اضافہ ملوث ہو

IV ایل سی کی منسوخی کے چارجز

V ریٹائرمنٹ:

1 یوزینس بلز:

میعاد مکمل پر

فی بل 1250 روپے اور اس کے علاوہ زائد کمیشن فی مہینہ 0.15 فیصد یا اس کا حصہ۔
پہلے سے وصول شدہ ایل سی کمیشن کی مدت ختم ہونے کے بعد۔ کم از کم 1250 روپے
(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کم از کم 1500 روپے وصول کیے جائیں گے)

فی بل 2000 روپے فلیٹ

مارک اپ پی اے ڈی لوجمنٹ کی تاریخ سے یا ہمارے اکاؤنٹ کے پہلے سے ڈیبٹ ہونے کی صورت میں، اکاؤنٹ کے ڈیبٹ ہونے کی تاریخ سے

ایل سی / معاہدے کے تحت یوزینس بلز کی میعاد ادائیگی میں اضافہ

2 سائٹ:

ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی کے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں

a۔ پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک

b۔ اگلے اکیس دنوں سے پینتیس دنوں تک

c۔ لوجمنٹ کے پینتیس دنوں بعد

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 65 پیسے

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 71 پیسے

ریٹائرمنٹ تک فی دن 1000 پر 76 پیسے

(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز سے کم از کم

1500 روپے وصول کیے جائیں گے)

کم از کم 1000 روپے یومیہ بل کی رقم سے قطع نظر

3. زائد المیعاد ایکسپشن کی سہولت

VI ان ورڈ غیر ملکی دستاویزی بلز:

- a۔ تمام ان ورڈ کلکشن / اوپن اکاؤنٹ / ایف اوسی کیسز پر پیڈ لنگ چارجز
b۔ بنادائیگی، واپس کیے گئے آئٹمز / بشمول کوریئر چارجز
c۔ تمام غیر ملکی بلز کلکشن / بشمول معاہدہ / اوپن اکاؤنٹ کی ریٹائرمنٹ / ادائیگی

d سوئفٹ چارجز

VII درآمدات کے مقابل پیشگی ادائیگی

- a۔ سوئفٹ ٹرانسفر
b۔ ڈیمانڈ ڈرافٹس
c۔ سروس چارجز

VIII کریڈٹ رپورٹس:

- a۔ غیر ملکی بینکوں کو، اُن کی درخواست پر
b۔ غیر ملکی بینکوں کو، صارف کی درخواست پر
IX معاہدوں کی رجسٹریشن کنسائنمنٹ کی بنیاد پر درآمدات کیلئے
a۔ معاہدوں کی رجسٹریشن کنسائنمنٹ کی بنیاد پر درآمدات کیلئے
b۔ درآمدات کے کوٹریکٹس کے رجسٹریشن میں تبدیلیاں
i۔ اگر رقم اور / یا مدت شامل نہ ہو
ii۔ اگر رقم اور / یا مدت میں اضافہ ہو

X ری امبرسمنٹ چارجز (ری امبرسنگ بینک کو قابل ادا)

XI مینج کی ترسیل

- a۔ فل سوئفٹ لیٹر آف کریڈٹ
b۔ ایل سی میں ترمیم سوئفٹ کے ذریعے
XII ڈسکریٹ دستاویز کی پیڈ لنگ
XIII FoB کی بنیاد پر درآمد کے لئے فریٹ سرٹیفیکیٹ کا اجراء
XIV درآمدات کے عوض فنانشل انسٹرومنٹ کا اجراء (ایف آئی)
XV بینک سے بینک کو ایف آئی کی منتقلی
XVI اوپن اکاؤنٹ پر فنانشل انسٹرومنٹ (ایف آئی)
XVII دیگر چارجز

B برآمدات

I لیٹرز آف کریڈٹ

- a۔ ایڈوائزنگ - کسٹمرز کے لیے
b۔ امینڈمنٹ ایڈوائزنگ - نان کسٹمرز کے لیے
c۔ برآمداتی ایل سیز کے تحت روپے بل میں نیگوسی ایشن کرنا
d۔ تصدیق

e۔ برآمداتی ایل سیز کی منتقلی

f۔ نان ریڈیڈنٹ روپے اکاؤنٹ سے دیگر مقامی بینکوں کو ادا کی جانے والی رقم کی ادائیگی

g۔ برآمدی ایل سی کلکشن

II اگر ایکسپریٹ ایل سیز کے تحت دستاویزات دیگر بینکوں کو نیگوسی ایشن کے لیے بھیجے جائیں۔

1500 روپے

یو ایس ڈالر 100 (یا فارورڈنگ بینک کی طرف سے اس کے برابر کی غیر ملکی کرنسی)
(درآمداتی دستاویزات کی ریٹائرمنٹ پر 0.15 فیصد سروس چارجز کی شرح کے حساب سے کم از کم 1500 روپے وصول کیے جائیں گے)

1000 روپے (اوپر دیئے گئے پوائنٹ نمبر VI A، VIB اور V IC پر لاگو ہیں۔)

1500 روپے

500 روپے

0.15 فیصد - کم از کم 1500 روپے

غیر ملکی بینکوں سے یو ایس ڈالر 100

اصل پر بشمول 30 امریکی ڈالر یا اسکے مساوی پاکستانی روپے بطور سروس چارجز وصول کیے جائیں گے

0.20 فیصد فلیٹ، کم از کم 2500 روپے

1500 روپے (فلیٹ)

1000 روپے علاوہ کمیشن درج بالا IXA کے مطابق

اصل

2000 روپے

1000 روپے

90 امریکی ڈالر (یا فارن کرنسی مساوی ہو فارورڈنگ بینک کے)

1200 روپے فی سرٹیفیکیٹ

125 روپے فی درخواست

600 روپے فلیٹ فی ٹرانزیکشن

900 روپے فی درخواست

سیکشن "F" متفرق کے مطابق

1750 روپے بمعہ کوریئر چارجز اگر لاگو ہوں

3000 روپے بمعہ کوریئر چارجز

1200 روپے بمعہ کوریئر چارجز اگر لاگو ہوں

1800 روپے بمعہ کوریئر چارجز

0.30 فیصد - کم از کم 1000 روپے

کم از کم 1500 روپے یا 0.40 فیصد فی سہ ماہی، جو بھی زیادہ ہو

زیادہ سے زیادہ - ہر کیس کی بنیاد پر

1500 روپے

725 روپے

1500 روپے

1200 روپے

III کلیکشنز

a۔ دستاویزی (جس پر بینک ایکسچینج فرانس نہیں کما تا ہو)

IV ڈیوٹی ڈرائیگ کلیم کی بینڈنگ

V پیمنٹ کور پہلے سے ہی بینک کے فارن کرنسی اکاؤنٹ (NOSTRO) میں وصول ہو جانے کی صورت میں، کلیکشن کی بنیاد پر بھیجے گئے برآمداتی دستاویزات پرسروس چارجز

VI سائٹ لیٹرز آف کریڈٹ کے تحت غیر ملکی کرنسی بلز کی نیگوسی ایشن

VII پیشگی ادائیگی پرسروس چارجز

VIII ایس پی او (اسٹینڈرائزڈ پریچر آرڈر)

IX فریٹ سبسڈی

X ای ای کی تصدیق

XI دیگر بینکوں کو ای ای / ای ایف این اوسی کا اجراء

XII برآمدی ری فنانس درخواستوں / ای ای ایف ایس (ایگزیم بینک) پر بینڈنگ چارجز

XIII برآمدی ڈولپمنٹ سرچارج

XIV پی آر سی کے اجراء، چارج پڑتا، دوبارہ تصدیق اور آر اینڈ ڈی کی ادائیگی کے لیے کیس کو آگے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بڑھانے پرسروس چارجز۔ گارمنٹ کی صنعت (سے تعاون) کو سہارہ

XV مقامی ٹیکسز اور لیویز کے ڈرائیگ (گارمنٹس، ہوم ٹیکسٹائل اور فیبرکس)

XVI پروسیسڈ فوڈ کی برآمدات کے لیے 6 فیصد ریسرچ اینڈ ڈولپمنٹ سپورٹ

XVII لائیو فوڈ کے برآمد کنندگان کے لیے 25 فیصد فریٹ سبسڈی (ٹی ڈی اے پی طے کرتا ہے)

XVIII این لینڈ فریٹ سبسڈی

XIX بزنس پرفارمنس سرٹیفکیٹ

XX ڈیوٹی ڈرائیگ پر کلیم کرنے کے لیے ڈپلیکٹ انکس اے کا اجراء

XXI جہاں برآمد کنندہ کسی دوسرے بینک کو غیر ملکی زر مبادلہ فروخت کرے اور وصولی کی دستاویزات بذریعہ بینک الحبيب بھیجی جائیں تو ایسی صورت میں، زر مبادلہ سے حاصل ہونے والی آمدنی کی جگہ بینڈنگ اور سروس چارجز

XXII زائد المیعا ایکسپورٹ بلز پورٹنگ کے بینڈنگ اور سروس چارجز

XXIII ڈیوٹی ڈرائیگ کلیمز کی بینڈنگ (ڈی ای ایل ای ایل) / ٹیکسٹائل / انان۔ ٹیکسٹائل بینڈنگ چارجز (انکر میٹیل اسٹیمز)

XXIV گنڈم / گنڈم کے آٹے، شکر اور ٹیکسٹائل / نان۔ ٹیکسٹائل اور دیگر سبسڈیز کی برآمدات پر سبسڈی کلیمز کی بینڈنگ

XXV کلیکشن دستاویزات کو ٹیکو شیٹ کرنے کے لیے دیگر بینکوں کے نام

برآمد کا این اوسی کا اجراء / دیگر بینکوں کو ای ایف ای کی منتقلی

XXVI پی / ایل کو حوالے کرنے / ہونے کی صورت میں شپنگ کمپنیوں کو این اوسی کا اجراء

XXVII دوسرے بینک کو برآمد کی حاصل ہونے والی رقم کی منتقلی، جہاں ہمارے یہاں کوئی دستاویزات کی بینڈنگ نہیں کی گئی

XXVIII ایل بی ایف ایف (ایس بی بی) ایپلیکیشنز کیلئے بینڈنگ چارجز

XXIX ایکسپورٹ ڈاکیومنٹ ریٹرن بغیر ادائیگی کے

XXX ایکسپورٹ ایڈوانس پیمنٹ کیسز کے سروس چارجز جہاں ای فارم تصدیق ہوا سرٹیفیکیشن ایس بی بی اپروول کے ایک سال بعد

XXXI ایف آئی کے اجراء کی تاریخ کے 45 دن بعد شیڈ ایف آئی

XXXII ڈپازٹ کے عوض ایکسپورٹس / غیر ملکی کرنسی کی حوالگی

XXXIII ایکسپورٹ پراسیڈر نیلا نیشن سرٹیفکیٹ (ای پی آر سی) کا اجراء۔ ایک سال سے زائد

XXXIV ایکسپورٹ کے عوض ایف آئی انٹرسٹ منٹ بنانا

XXXV روپے کی بنیاد پر ایس بی بی لون ایپلیکیشن چارجز

c۔ کلیکشن (غیر ملکی کرنسی)

I آؤٹ ورڈز

a۔ کلین بلز

b۔ بنانا ادائیگی واپس شدہ چیکس

c۔ لوکل یو ایس ڈالر کلیکشن

d۔ واپس شدہ لوکل یو ایس ڈالر کلیکشن کے چارجز

1000 روپے

25 پیسے فی 100 روپے (کم از کم 1000 روپے)

15 پیسے فی 100 روپے (1.5 روپیہ فی 1000 روپے) کم از کم 1700 روپے

او۔ ڈی بانگ شرح لاگو ہوگی۔ اگر 12 دن کے اندر بل کی ادائیگی نہیں ہوئی تو 12 دن بعد کسی بھی تاخیر کے لیے فی دن ہزار روپے پر 50 پیسے وصول کیے جائیں گے۔

15 پیسے فی 100 روپے (1.5 روپیہ فی 1000 روپے) کم از کم 1500 روپے

250 روپے فی آرڈر

1000 روپے فی کیس

1000 روپے فی کیس

1500 روپے

1250 فی سمپٹن / درخواست

100 روپے فی بل

1000 روپے

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1000 روپے فی دعویٰ

1100 روپے

500 روپے فی ٹرانزیکشن

0.10 فیصد کی شرح پر کم از کم 1250 روپے

ٹرانزیکشن کی رپورٹنگ کے وقت فی E فارم -1200 روپے

-100 روپے فی شپمنٹ / فی ٹرانزیکشن

-1000 روپے فی کیس۔

-750 روپے

-1000 روپے فلیٹ

1500 روپے بشمول سوئفٹ چارجز

2000 روپے فی کیس

1500 روپے

1000 روپے

100 روپے فی ایف آئی فارم

10,000 امریکی ڈالر یا دیگر کرنسیوں میں اس کے مساوی رقم کیلئے 0.6 پیسے فی امریکی ڈالر یا

دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے مساوی

600 روپے

125 روپے فی درخواست

1250 روپے فی سمپٹن / درخواست

یو ایس ڈالر 10 یا اس کے مساوی غیر ملکی کرنسی

D۔ ترسیلات - غیر ملکی

I آؤٹ ورڈ

a۔ فنانشل ڈیمانڈ ڈرافٹ FDD

یو ایس ڈالر 20 مع بینک چارجز۔ اضافی 0.50 فیصد یا کم از کم یو ایس ڈالر 4 لاگو ہوں گے، اگر تفریقی رقم جس کی ترسیل کی جانی ہے اسے کم از کم 15 یوم کے اندر بینک کے ساتھ میٹین نہ کیا جائے

یو ایس ڈالر 35 مع بینک چارجز۔ اضافی 0.50 فیصد یا کم از کم یو ایس ڈالر 4 لاگو ہوں گے، اگر تفریقی رقم جس کی ترسیل کی جانی ہے اسے کم از کم 15 یوم کے اندر بینک کے ساتھ میٹین نہ کیا جائے

یو ایس ڈالر 10

یو ایس ڈالر 6 کے علاوہ اصل پر غیر ملکی بینک کے چارجز

b۔ ایف ٹی ٹی

c۔ ایف ڈی ڈی کی منسوخی

d۔ ایف ڈی ڈی کی ادائیگی روکنا

نوٹ: درج بالا چارجز کے علاوہ کسی سروس / کوریئر / ڈاک / فیکس / سوئفٹ چارجز بھی لئے جب اطلاق ہوتا ہو لئے جائیں گے

II ان ورڈ

a۔ ڈی ڈی / ای ٹی / ایم ٹی

کوئی چارجز نہیں

1 فیصد کمیشن

III غیر ملکی ٹریڈرز چیکس کا اجراء

E فارن بلز کی خرید

I غیر ملکی کرنسی انسٹرومنٹس:

او۔ ڈی بانگ ریٹ لاگو ہوں گے۔ اگر 12 دن کے اندر بل کی ادائیگی نہیں ہوئی تو 12 دن بعد کسی بھی تاخیر کے لیے فی دن 1000 روپے پر 50 پیسے بشمول 50 روپے بینڈ لنگ چارجز وصول کیے جائیں گے۔ متفرق سیکشن "F" کے مطابق

II دیگر چارجز

F۔ متفرق:

I کورس پونڈنس کے چارجز

II پونج / کوریئر / سوئفٹ چارجز کی وصولی درج ذیل کی جائیں گی:

اصل

200 روپے

i۔ اصل

ii۔ جہاں کوریئر کمپنی کی جانب سے کوریئر چارجز براہ راست ڈیبٹ ہوئے ہوں کسٹمر کے اکاؤنٹ سے تو بطور سروس چارجز 150 روپے چارج کئے جائیں گے۔

1000 روپے فی پیغام

پونج
کوریئر

سوئفٹ

اصل بشمول 500 روپے پراسیسنگ چارجز

III غیر ملکی خریداروں / سپلائرز کی کریڈٹ رپورٹ

IV صارفین کی درخواست پراسیسٹ بینک آف پاکستان سے غیر ملکی زرمبادلہ کی ٹرانزیکشنز / ٹریڈ

ٹرانزیکشنز / پادیکر مقاصد کیلئے منظوری حاصل کرنا

V فارن کرنسی اکاؤنٹ کیلئے مستقل ہدایت

یو ایس ڈالر 3 فی ہدایت مع ریمیٹنس چارجز

اندرون ملک بینکاری

A۔ ترسیلات زر:

450 روپے (تعلیمی اداروں، ایچ ای سی/ بورڈ وغیرہ کی فیس/ واجب الادا رقم کیلئے بینکرز چیک/ ڈیمانڈ ڈرافٹ پرفیس لاگو نہیں ہوگی)۔

a۔ بینکرز چیک کا اجراء

0.12 فیصد - کم از کم 225 روپے

150 روپے

200 روپے فی شے

کوئی نہیں

کوئی نہیں (اندرون شہر) کوئی نہیں (بیرون شہر)

500 روپے

500 روپے

i۔ ہمارے کورسپونڈینٹ پر ڈرا ہونے والے

c۔ فیکس ایڈریس پر سوئفٹ چارجز

d۔ سوئفٹ

e۔ منتقلی بذریعہ آئی بی سی اے

f۔ (i) آن لائن کیش جمع کروانا / رقم نکلوانا

II ڈی ڈی / بی او / بینکرز چیک کی منسوخی کے چارجز

III ڈپلیکیٹ بینکرز چیک

B۔ اندرون ملک تجارت

I ساقط ایل سیز کی توثیق نو یا نئے مینیفیسٹری کو منتقل کرنا

II اندرون ملک لیٹرز آف کریڈٹ کھولنے کا کمیشن

III اندرون ملک ایل سی دستاویزات میں غلطی کے چارجز

IV ایل سیز میں ترمیم

a۔ اگر رقم اور / یا مدت سے سروکار یا واسطہ نہ ہو

b۔ اگر مدت شامل ہو

c۔ اگر رقم میں اضافہ درکار ہو

V ریٹائرمنٹ:

1۔ مقامی ایل سی کے تحت مکمل میعاد پر بلز کی ریٹائرمنٹ

2۔ یوزینس بلز: میعاد پر

3 سائٹ

i) ریٹائرمنٹ پر پی اے ڈی کے لیے قابل اطلاق نرخ درج ذیل ہیں

a۔ پہلے دن سے لے کر بیسویں دن تک

b۔ اگلے اکیسویں دن سے پینتیسویں دن تک

c۔ لو جمنٹ کے پینتیسویں دن کے بعد

VI کلکیشنز

a۔ دستاویزی (آئی ڈی بی سی اور ایل ڈی بی سی) +

b۔ کلین (بشمول چیکس)

c۔ رجسٹریشن کے بینڈنگ چارجز / اسٹینڈرڈ پر چیز آرڈر کی ادائیگی (ایس پی او)

VII اندرون ملک کی ایل سیز کے لیے نیگوسی ایشن

VIII بلز اور چیکس وغیرہ کی خریداری:

a۔ دستاویزی بلز علاوہ اُن کے جو ایل سی اور کلین بلز / ٹریڈ چیکس پر ڈرا کیے گئے

ہوں

b۔ دیگر چیکس / ڈیمانڈ انسٹرومنٹ (جیسے ڈیویڈنڈ وارنٹس)

تمام بلز کی ریٹائرمنٹ پر (یوزینس اور سائٹ) 0.05 فیصد سروس چارجز
500 روپے فی بل، زائد کمیشن کی شرح کے مطابق 0.10 فیصد فی مہینہ یا اس کا کچھ حصہ
پہلے سے کوڑا ایل سی کمیشن کی مدت کے بعد پی اے ڈی لو جمنٹ کی تاریخ سے لاگو شرح منافع

واجب الادا تاریخ سے ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 65 پیسے فی یوم

واجب الادا تاریخ سے ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 71 پیسے فی یوم

واجب الادا تاریخ سے ریٹائرمنٹ تک 1000 پر 76 پیسے فی یوم

0.4 فیصد کم از کم 900 روپے بمعہ ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

0.25 فیصد کم از کم 250 روپے، زیادہ سے زیادہ 1100 روپے بمعہ ادائیگی کرنے

والے بینک کے چارجز

250 روپے

بل کی رقم کا 0.25 فیصد بمعہ تصدیق شدہ نرخوں میں کمی

0.40 فیصد کم از کم 100 روپے بمعہ شرح سود سے 41 پیسے فی دن فی ہزار انسٹرومنٹ کی

خریداری کی تاریخ سے لیکر انسٹرومنٹ کی وصولی بمعہ بینک چارجز

انسٹرومنٹ کی خریداری کی تاریخ سے لے کر ادائیگی کی وصولی کی تاریخ تک 0.35 فیصد

کم از کم 30 روپے، فی دن ہزار روپے پر 41 پیسے کا شرح منافع کے ساتھ، علاوہ

ادائیگی کرنے والے بینک کے چارجز

IX بغیر ادائیگی واپس آنے والے مقامی بلز

X متفرق چارجز: درج ذیل کے مطابق جہاں قابل اطلاق ہوں (درج بالا V-I) زائد ہوں گے۔

a۔ کلکٹنگ بینک چارجز (اگر کلکٹنگ بینک، بینک الحبیب لمیٹڈ کے علاوہ کوئی دوسرا ہو) اصل علاوہ 50 روپے

50 روپے

b۔ بذریعہ فون / فیکس انسٹرمنٹس کی معلومات

c۔ انسٹرمنٹ واپس ہونے کے چارجز

دستاویز کی کلکیشن کے لیے

کلین کلکیشن کے لیے

d۔ اسٹوریج چارجز

e۔ کوریئر چارجز:

بینک الحبیب کی برانچوں کے لیے

دیگر بینکوں کے لیے

C۔ فنانسنگ / ایڈوانسز

I درج ذیل چارجز، مارک اپ کے علاوہ اضافی لیے جائیں گے:

منصوبے کی معائنہ اور جائزہ فیس

قانونی اور انتظامی فیس

متفرق چارجز (سیکیورٹی کو جانچنا اور اسکا مینٹنس)

II رہن اور ہاپو تھیکیشن پر فنانس کے لیے

مختلف چارجز اور ہاپو تھیکیشن نافذ ہو سکتے ہیں:

a۔ گودام کا کرایہ

b۔ گودام کے اسٹاف کی تنخواہیں اور مقدم کے چارجز

c۔ گودام کے معائنے کے چارجز:

i۔ میونسپل حدود کے اندر

ii۔ میونسپل حدود کے باہر

d۔ حوالے کرنے کے چارجز - اگر گودام کارکھوالا تعینات نہ کیا گیا ہو

e۔ اسٹاک کا معائنہ:

i اگر یہ معائنے بینک کی جانب سے مقرر کردہ ایجنٹس کریں

ii اگر یہ معائنے بینک کا اسٹاف کرے

اصل

اصل

اصل کی ترسیل کے چارجز علاوہ 400 روپے

قوانین کے مطابق ٹی اے اور ڈی اے علاوہ 400 روپے

اصل کی ترسیل کے چارجز علاوہ 100 روپے فی ترسیل

اصل

i) بلدیاتی حدود - 1250 روپے کے اندر

ii) بلدیاتی حدود سے باہر - 2500 روپے فی معائنہ (30-45 دنوں میں زیادہ سے

زیادہ 1 مرتبہ)

نوٹ: بینک کے ایگزیکٹو/بیرونی اور اندرونی آڈیٹرز کے ذریعے سے گوداموں پر وقتاً

وقتاً اچانک معائنے کی صورت میں چارجز نہیں ہونگے

اگر کوئی پارٹی کریڈٹ لائن کی منظوری حاصل کیے ہوئے ہو اور کمیٹیڈ کیے گئے کاروبار کو

پہنچانے میں ناکام ہو جائے تو بینک کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ متلافی کمیشن وصول

کرے جو کہ زیادہ سے زیادہ 5 فیصد کی شرح سے کاروبار میں خسارے کی حد تک ہو، وہ

کاروبار جو کہ پیشگی انتظام کے مطابق ہمارے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا گیا ہو۔

300 روپے فی ترسیل

f۔ کاروباری عہد اور معاوضہ کمیشن

g۔ پلچیڈ کے سامان پر ڈیلیوری آرڈر چارجز

i-h قانونی چارجز:

. اندرونی قانونی معاونت:

2000 روپے فی دستاویز

500 روپے

اصل

اصل پر

زائد المعیاد کی تاریخ / ادائیگی کی تاریخ تک میچورٹی سے 28% سالانہ

8000 روپے فی این او سی

. جائیداد کے دستاویزات کی نظر ثانی

. دیگر اداروں کی طرف سے جاری کردہ سیکورٹیز پر حق تصرف (لی این) کی نوٹنگ

. بیرونی قانونی معاونت:

III سی آئی بی رپورٹ چارجز

IV قرضہ جاتی سہولیات پر زائد المعیاد شرح (بشمول رعایت اور لیزنگ)

V مزید پروڈیجیکٹس کیلئے انکے فکسڈ اور کرنٹ اثاثہ جات کے حصول کیلئے اضافی /

مساوی چارجز / سینڈ چارج صارفین / کلائنٹس کی درخواست پر NOC کا اجراء

(صارف کی درخواست پر)

VI اگر بینک کے افسران کو رہن کی واپسی کیلئے رجسٹرار کے پاس جانا ہو تو ایسی

صورت میں ریڈمپشن فیس پارٹی سے وصول کی جائے گی

VII سیکورٹی آف ایکسچینج کمیشن (ایس ای سی پی) سے رجسٹریشن / ترمیم / سیٹیفیکیشن

اصل پر / ویکشین آف چارج اور ڈائریکٹر / چارج سرچ / سی ٹی سی وغیرہ

VIII کنٹرول اینڈ سیکورٹی دستاویزات پر اسٹیپ ڈیوٹی ہر صوبے میں لاگو اسٹیپ اسٹیپ پیپر / چکنے والے ڈاک ٹکٹ کی اصل قیمت پر

ڈیوٹی ایکٹ کے مطابق

IX کمرشل وہیکل لیزنگ (CVLD کے ذریعے)

9000 روپے

اصل پر

واجب الادا رقم کا کل 1 فیصد

اصل پر

اصل پر

لیز ریٹنل کی واجب الادا رقم کا 28% سالانہ

750 روپے

اصل پر

اصل پر

اصل پر (صارف ادا کرے گا)

اصل پر

a پروسیڈنگ فیس

b دستاویز کے چارجز

c ابتدائی تصفیے کے چارجز

d اضافی تخمینے کے چارجز

e تخمینے کے چارجز - گاڑی کی دوبارہ ملکیت

f تاخیر سے ادائیگی کے چارجز

g چیک واپس ہونے پر چارجز

h گاڑی کی رجسٹریشن / منتقلی کے چارجز

i دوبارہ ملکیت کے چارجز

j گاڑی کا ٹیکس

k قانونی چارجز

X۔ زرعی قرضہ جات

(i) تمام نئے / تجدید شدہ فارم اور نان - فارم لون

1.5 ملین تک کے قرضے

1.5 ملین سے زیادہ 3 ملین تک

3 ملین سے زیادہ

(ii) ٹریڈرز کیلئے قرضہ

(iii) دستاویزات اور اسٹامپ ڈیوٹی چارجز

(iv) پراپرٹی کی مالیت کے چارجز

(v) واجب الادا قلیل المدتی فنانس کی سہولت

(vi) پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی (پی ایل آر اے) سروس چارجز (صرف پنجاب میں) اصل

(vii) سیکورڈر انزیکشن رجسٹری (ایس ٹی آر) میں سیکورٹی انٹرسٹ کی رجسٹریشن اصل

کیلئے فیس بشمول ابتدائی، ماڈیفیکیشن، ٹرمینیشن چارجز وغیرہ

XI کارپوریٹ کریڈٹ

(ا) قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

50 ملین تک کے قرضے

50 ملین سے زیادہ 100 ملین تک

100 ملین سے زیادہ 250 ملین تک

250 ملین سے زیادہ 500 ملین تک

500 ملین سے زیادہ

(ب) زائد المعیاد قلیل مدتی سہولت

XII کمرشل کریڈٹ

(i) مالی نیا/تجدید شدہ

2 ملین تک کے قرضے

2 ملین سے زیادہ 5 ملین تک

5 ملین سے زیادہ 10 ملین تک

10 ملین سے زیادہ 20 ملین تک

20 ملین سے زیادہ 50 ملین تک

50 ملین سے زیادہ 100 ملین تک

100 ملین سے زیادہ

(ii) اضافہ/کمی/ای اوایل/اون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع

(iii) قلیل المدت زائد المعیاد قرضہ کی سہولت

XIII چینل فنانسنگ

قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

(ii) اضافہ/کمی/ای اوایل/اون آف ٹرانزیکشنز اور عارضی توسیع

XIV اسماں اینڈ میڈیم اینٹرپرائزز (ایس۔ ایم۔ ای)

قرضے/بغیر قرضے کی سہولت

(i) نیا/تجدید شدہ

مالی سہولت 10 ملین تک

مالی سہولت 10 ملین سے زیادہ

(ii) ایس ایم ای صارفین (ایس ای اور ایم ای) کے واجب الادا چارجز

نوٹ: مندرجہ ذیل میں یعنی کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس، چینل فنانسنگ، کمرشل وہیکل لیزنگ

کے علاوہ تمام ایس ایم ایز پر ایس ایم ای SOC لوگو ہیں۔

D لاکر کی سہولیات

لاکرز چند ہی برانچوں میں دستیاب ہیں۔ اگر ڈی ڈپازٹ کی ضرورت پوری نہیں کی جاتی تو موجودہ

اور نئے صارفین سے لاکر کی سالانہ فیس مدت شروع ہوتے وقت پیشگی وصول کی جائے گی

a کی ڈپازٹ

یا

b سالانہ فیس

c. لاکر توڑنے/چابی کی تبدیلی کے چارجز

d. دیر سے ادائیگی کی فیس (آخری تاریخ سے

30 یوم کی مدت تک رعایتی وقت)

10,000 روپے

25,000 روپے

70,000 روپے

80,000 روپے

100,000 روپے

زائد المعیاد قلیل مدتی سہولت میں اسکی واجب الادا رقم پر 28% سالانہ کی شرح سے معاوضہ لیا جائے گا۔

2,500 روپے

3,000 روپے

5,000 روپے

10,000 روپے

20,000 روپے

30,000 روپے

50,000 روپے

کوئی نہیں

زائد المعیاد ایس ٹی ایف رقم پر 28% سالانہ کی شرح سے چارج کیا جائے گا

5000 روپے فلیٹ

کوئی نہیں

5,000 روپے

0.05 فیصد زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے

28 فیصد ایس ٹی ایف سہولت کے عوض

چھوٹے لاکر کے لیے 50,000 روپے

درمیانے لاکر کے لیے 60,000 روپے

بڑے لاکر کے لیے 80,000 روپے

چھوٹے لاکر کے لیے 6,000 روپے

درمیانے لاکر کے لیے 7,500 روپے

بڑے لاکر کے لیے 10,000 روپے

اصل پر

500 روپے (اسماں)

650 روپے (میڈیم)

850 روپے (لارج)

E۔ گارنٹیز

- I ابل آف لیڈنگ / ایئر کنسائمنٹ نوٹس کے بدلے میں شپنگ کمپنیز / ایئر لائنز کو جاری 2000 روپے کردہ گارنٹیز
- II ڈیوٹی کی ادائیگیوں کے بدلے میں کسٹم کے کلکٹر کو جاری کردہ گارنٹیز
- III دیگر گارنٹیز
- IV برآمد سے حاصل ہونے والی رقوم و دہولڈنگ ٹیکس سے مستثنیٰ ہونے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جاری کردہ گارنٹیز
- V دیگر گارنٹیز بشمول موخر ادائیگیوں کی گارنٹیز سپلائر یا بائزر کریڈٹ / وصول کنندہ اسکیم کے تحت :

- a اُن کلائنٹس کے لیے جو 15 ملین روپے تک کی گارنٹی کی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔ 0.40 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ ، کم از کم 500 روپے فی سہ ماہی
 - b اُن کلائنٹس کے لیے جو 15 ملین روپے سے زائد کی گارنٹی کی سہولت استعمال کر رہے ہیں۔ 0.30 فیصد فی سہ ماہی یا اس کا حصہ
- (کمپیڈ سالانہ کاروبار کی تکمیل نہ ہونے کی صورت میں درج بالا شرح (a) کا اطلاق ہوگا اور باقی رقم کا فرق وصول کر لیا جائے گا)

- VI گارنٹی لیٹر کے متن میں ترمیم (رقم اور مدت وہی رہے گی) ترمیمی کمیشن 1200 روپے
 - VII ایل جی کی وصولی کے چارجز (کارپوریٹ کسٹمرز کی جانب سے گارنٹیز کی وصولی اور یہ سروس ان کے لئے ہے جنھیں قرضے کی سہولت میسر ہے) 1500 روپے فی انسٹرومنٹ / ایل جی
 - VIII بینفٹری / اسائنٹی کی جانب سے ہماری ایل سی کے عوض ہینڈلنگ کمیژن کیلئے سروس 2500 روپے فلیٹ
- چارجز (بینک کے باہر سے یا دوسرے بینک سے دعویٰ وصول کرنے کی صورت میں صارف سے چارجز کی وصولی)

- IX گارنٹی لیٹر کی تینج 625 روپے
- X الیکٹرک بینک گارنٹی کے اجراء کے لئے سوفٹ چارجز 500 روپے

نوٹس: رقم میں اضافہ ہو یا معینہ مدت میں، یکساں چارجز قابل اطلاق ہونگے۔ گارنٹی جاری ہونے کی تاریخ سے لے کر میعاد ختم ہونے تک گارنٹی کمیشن وصول کیا جائے گا۔

F۔ انویسٹمنٹ پورٹفولیو سیکورٹیز کا وٹ (IPS)

- (i) انویسٹمنٹ پورٹ فو لیو سیکورٹیز 1000 روپے فی ٹرانزیکشن
- (ii) کسٹڈی اکاؤنٹ چارجز 1000 روپے فی ماہ

G۔ متفرق چارجز:

- 1۔ چیکس کی ادائیگی روکنا 700 روپے فی انسٹرکشن
- 2۔ بینک کو چیک وصول ہوں اور نا کافی رقم کے سبب بنا ادائیگی واپس ہونے پر 750 روپے یا اکاؤنٹ میں 750 روپے سے کم جتنی بھی رقم ہو
- 3۔ اسٹینڈنگ انسٹرکشن چارجز (پینشنر اکاؤنٹ کے لیے کوئی چارجز نہیں) 300 روپے فی انسٹرکشن بمعہ ترسیلات زر چارجز
- 4۔ صارف کی درخواست پر ادائیگی کے حوالے سے اعتباری سرٹیفکیٹ کے اجراء 400 روپے فی سرٹیفکیٹ

- 5۔ صارف کی درخواست پر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے اجراء پر (اگر صارف یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھیجی گئی اسٹیٹمنٹ وصول نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے)

- (i) 6 ماہ تک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ 35 روپے
- (ii) 6 ماہ سے زائد عرصے کا اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ اضافی 35 روپے ہر 6 ماہ پر

- 6۔ اُسی دن، چیکس کلیئر ہونے کے چارجز 500 روپے فلیٹ
- 7۔ اُسی دن کا کلیئرنگ چیک جو ہم پر ڈرا ہوا اور ناکافی فنڈ کی صورت میں بغیر ادائیگی 750 روپے یا کوئی بھی رقم جو اکاؤنٹ میں 750 روپے سے کم ہو واپس ہو جائے
- 8۔ آن لائن، چیک واپس ہونے پر چارجز کوئی چارجز نہیں
- 9۔ دیگر بینکوں/بچت مرکز سے کوپنز پر منافع وصول کرنے کے کلیکشن چارجز 150 روپے
- 10۔ ادا کردہ چیکس کی فوٹو کاپیاں 150 روپے فی چیک
- 11۔ ادا کردہ چیکس کی تصدیق کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کا اجراء 100 روپے
- 12۔ چیک بک کے چارجز (پینشنیر اکاؤنٹ کے لیے مفت چیک بک) 25 روپے فی لیف
- 13۔ اسپیشلائزڈ/اتھارائزڈ چیک بک اصل
- 14۔ کال ڈپازٹ رسید کے اجراء کے چارجز کوئی چارجز نہیں
- 15۔ کال ڈپازٹ رسید کی ڈپلیکیٹ کے چارجز 300 روپے
- 16۔ کال ڈپازٹ رسید کی منسوخی کے چارجز کوئی چارجز نہیں
- 17۔ اکاؤنٹ میٹیننس سرٹیفکیٹ 300 روپے فی سرٹیفکیٹ (کوئی چارجز نہیں اگر بینک الحبیب سے لون کیلئے درکار ہو)
- 18۔ انٹرسٹی چیکس کی وصولی بذریعہ نفٹ 300 روپے فی انٹرسٹومنٹ
- 19۔ انٹرسٹی (آؤٹ ورڈ)، چیک کی واپسی کے چارجز 750 روپے فلیٹ
- 20۔ بذریعہ پریم سسٹم تھرڈ پارٹی کے فنڈز منتقلی کی سیٹلمنٹ کم از کم قیمت کی حد 1,000,000 روپے اور زائد
- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک 220 روپے
- دوپہر 1:30 بجے سے دوپہر 3:00 بجے تک 330 روپے
- دوپہر 3:00 بجے سے شام 4:00 بجے تک 550 روپے
- کم از کم قیمت کی حد 100,000 روپے
- پیر سے جمعہ : صبح 9 بجے سے شام 4:30 بجے تک 50 روپے فی ٹرانزیکشن (زیادہ سے زیادہ 10 سیمنٹ انٹرسٹرنز بھیجی جاتی ہیں بذریعہ ایک ایم پی 102 میسج)
- نوٹ: مزید ہدایات آنے تک اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے RTGS چارجز ختم کر دیئے ہیں، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے PSD سرکل نمبر 2 بتاریخ 2020 کو جاری کئے گئے تھے۔ مستقبل میں لاگو ہونے والے چارجز فوری طور پر مندرجہ بالا کے مطابق لاگو ہوں گے۔
- 21۔ بیرون ملک ملازمت کا سرٹیفکیٹ 250 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 22۔ ایکسپریس چیک بک (10 لیوز) 300 روپے
- 23۔ بیلنس کا سرٹیفکیٹ 375 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 24۔ آڈیٹز کیلئے سرٹیفکیٹ برائے بیلنس 500 روپے فی سرٹیفکیٹ
- 25۔ پرانے ریکارڈ کے حصول کیلئے 1 سال تک 400 روپے
- 2 سال تک 500 روپے
- 3 سال تک 600 روپے
- 3 سال سے زائد 900 روپے
- 26۔ قومی پرائز بونڈ پر بینک چارجز۔ جیتی گئی رقم کے کلیم پر 275 روپے فی دعویٰ
- 27۔ CIT (کیش ان ٹرانزٹ) چارجز قومی پرائز بونڈ پر۔ جیتی گئی رقم کے دعوے پر اصل (اگر جیتی گئی رقم -/100,000 روپے کے مساوی یا اس سے زیادہ ہو)
- 28۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان/نیشنل بینک آف پاکستان کے چیکس کے اجراء پر 500 روپے
- اپیشل کلیئرنگ (صرف صارف کی درخواست پر)
- 29۔ SECP آن لائن پورٹل سروس چارجز پرائیویٹ کمپنیز 1100 روپے، پبلک کمپنیز 2000 روپے
- 30۔ پروسیڈرینگلائزیشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کے اجراء پر۔ ایک سال کے بعد 500 روپے
- 31۔ ڈوپلیکیٹ پروسیڈرینگلائزیشن سرٹیفکیٹ (پی آر سی) کے اجراء پر 700 روپے

کنزیومر بینکنگ پروڈکٹس

I۔ ذاتی قرضے کی سہولت

- a۔ پروسیڈنگ فیس 3,000 روپے
b۔ پیسٹنگی ادائیگی کوئی نہیں
c۔ تاخیر سے ادائیگی پر چارجز 1000 روپے فی تاخیر سے ادائیگی کی قسط پر
d۔ جزوی ادائیگی کی فیس / چارجز کوئی نہیں
e۔ مقدمہ سازی / قانونی چارجز اصل
f۔ قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز اصل

II۔ کیش فنانس کی سہولت

- a۔ قانونی دستاویزات کی سہولت / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز اصل
b۔ پروسیڈنگ فیس 2500 روپے
c۔ لی بن مارکنگ کے چارجز (بینک الحیب کے علاوہ) 500 روپے
d۔ تاخیر سے گئی ادائیگی کے چارجز 1000 روپے فی تاخیر سے ادائیگی پر

III۔ آٹو کے قرضہ جات

- a۔ پروسیڈنگ فیس 9000 روپے فلیٹ
(i) نئی گاڑیوں کی
(ii) درآمد شدہ / مرمت شدہ اور استعمال شدہ گاڑیوں کی
b۔ جلد ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی) 9500 روپے فلیٹ
c۔ تاخیر سے ادائیگی کے چارجز کوئی نہیں
d۔ چیکس کے بغیر ادائیگی / واپس ہونے پر چارجز 1000 روپے فی قسط تاخیر ادائیگی
e۔ دوبارہ قبضے میں لئے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر) 750 روپے فی کیس
f۔ گاڑی کے معائنے / تشخیص کے چارجز 100,000 روپے یا اصل جو بھی کم ہو
g۔ گاڑی کے دوبارہ قبضے پر معائنے / تشخیص کے چارجز اصل
h۔ مقدمہ سازی / قانونی چارجز اصل
i۔ جزوی پری پیمنٹ فیس / چارجز کوئی نہیں
j۔ ذاتی، حادثاتی بیمہ کوئی نہیں
k۔ گاڑی کی رجسٹریشن / اٹرانسفر چارجز / سیکورڈڈ ٹرانزیکشن رجسٹری اصل
l۔ ویئر ہاؤس چارجز اصل جہاں لاگو ہو

IV۔ آٹو لیزنگ (بذریعہ کنزیومر بینکنگ ڈویژن)

- a۔ پروسیڈنگ فیس فی ٹرنچ 0.1 فیصد لیز کی رقم کا یا 8000 روپے۔ جو بھی زیادہ ہو
b۔ قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیمپنگ چارجز اصل
c۔ جلد ادائیگی کی فیس / چارجز کوئی نہیں
d۔ تاخیر سے ادائیگی کے چارجز 28 فیصد
e۔ چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز 750 روپے فی کیس
f۔ دوبارہ قبضے میں لئے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر) 100,000 روپے یا اصل پر۔ جو بھی کم ہو
g۔ گاڑی کے معائنے / تشخیص کے چارجز اصل
h۔ مقدمہ سازی / قانونی چارجز اصل

V۔ ہاؤسنگ فنانس فیسلٹی (بشمول کیٹگری II کے تحت رینووی ایل انرجی سولوشنز کیلئے قرضہ انفرادی افراد کیلئے)

- a۔ پروسیڈنگ فیس 8000 روپے
b۔ جلد ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی) کوئی نہیں
c۔ تاخیر سے ادائیگی کے چارجز 1000 روپے فی قسط تاخیر سے ادائیگی پر
d۔ چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز 750 روپے فی کیس
e۔ جائیداد کے معائنے / تشخیص کے چارجز اصل
f۔ وکیل کی فیس اصل
g۔ آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس اصل
h۔ دستاویزات / اسٹیمپنگ چارجز اصل
i۔ کوریئر چارجز (فارن) اصل

VI۔ ہاؤسنگ فنانس کیلئے گورنمنٹ مارک اپ سبسڈی اسکیم (میرا پاکستان میرا گھر)

- پروسیڈنگ فیس
- قبل از وقت ادائیگی کی فیس / چارجز (پوری / جزوی)
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- جائیداد کے معائنے / تشخیص چارجز
- وکیل کی فیس
- آمدنی کے تخمینے کے چارجز / فیس
- دستاویزات / اسٹیٹمنٹ چارجز
- کوریر چارجز (فارن)

5000 روپے
کوئی نہیں
1000 روپے
750 روپے فی کیس
اصل
اصل
اصل
اصل
اصل

VII۔ پرائم منسٹر یوتھ بزنس پلان (اسال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز)

- قانونی دستاویزات / معاہدے کے اسٹیٹمنٹ چارجز
- پروسیڈنگ فیس
- معائنے / تشخیص کے چارجز
- وکیل کی تشخیص فیس
- آمدنی کا تخمینہ

اصل
100 روپے
اصل
اصل
اصل

VIII۔ موٹرسائیکل کی فنانسنگ کی سہولت

- پراسسنگ فیس
- قبل از وقت ادائیگی کی فیس / چارجز
- تاخیر سے ادائیگی کے چارجز
- چیکس کے بغیر ادائیگی واپس ہونے پر چارجز
- دوبارہ قبضے میں لیے جانے پر چارجز (اندرون اور بیرون شہر)
- دوبارہ قبضہ کی گئی گاڑیوں کی تشخیص / معائنے کے چارجز
- مقدمہ بازی / قانونی چارجز
- جزوی پری پیمنٹ فیس / چارجز
- گاڑی کی رجسٹریشن / ٹرانسفر چارجز / سکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (STR)
- وئیر ہاؤس چارجز
- دستاویزی چارجز

کوئی نہیں
کوئی نہیں
تاخیر سے ادائیگی پر فی قسط 400 روپے
750 روپے فی کیس
اصل
اصل
اصل
کوئی نہیں
اصل
اصل جہاں اطلاق ہو
اصل

آلٹرنیٹ ڈیوری (اے ڈی سی) چینلز

- فنڈز ٹرانسفر کی سہولت
انٹربینک فنڈز ٹرانسفر بذریعہ اے ٹی ایم / انٹرنیٹ بینکنگ / موبائل بینکنگ

25,000 روپے فی مہینہ / فی اکاؤنٹ تک مفت آئی بی ایف ٹی۔
25,000 روپے فی مہینہ / فی اکاؤنٹ سے زائد اضافی رقم کیلئے، ٹرانزیکشن کی رقم کا 0.1 فیصد
یا 200 روپے، جو بھی کم ہو، چارج کیا جائے گا۔

II۔ اے ٹی ایم

- اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء
- اے ٹی ایم سوچ ٹرانزیکشنز
- دیگر بینکوں کے اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے پر
- لوکل بینکس معلوم کرنے کے چارجز
- اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس (آف نیٹ)
- اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس (آن نیٹ)

فری
23.44 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن
4 روپے فی ٹرانزیکشن

III۔ ویزا ڈیبٹ کارڈ

- سالانہ / متبادل۔ پرائمری
- سالانہ / متبادل۔ سلیمنٹری
- اے ٹی ایم بین الاقوامی کیش وڈرال
- مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
- بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز
- مقامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز
- بین الاقوامی سطح پر ریٹریول کی درخواست پر چارجز

سکینچ کارڈ کیلئے 18000 روپے، پلائنیم کارڈ کیلئے 7500 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 4000 روپے سلور کارڈ کیلئے 2750 روپے
سکینچ کارڈ کیلئے 18000 روپے، پلائنیم کارڈ کیلئے 5000 روپے گولڈ کارڈ کیلئے 2500 روپے، سلور کارڈ کیلئے 2000 روپے
4.50 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم
اصل
اصل
اصل
اصل

- h۔ بین الاقوامی سطح پر بیلنس اکنوائزی چارجز 300 روپے
i۔ ویزا آر بیٹریشن چارجز اصل
j۔ بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن 4.50 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر

VI۔ موبائل بینکنگ

موبائل بینکنگ پن کے دوبارہ اجراء پر مفت

V۔ چائنا یونین پے

- a۔ سالانہ/متبادل۔ پرائمری 2500 روپے
b۔ سالانہ/متبادل۔ سلیمنٹری 1800 روپے
c۔ بین الاقوامی سطح پر ای ایم کیو ڈی ڈی 4.50 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
d۔ بین الاقوامی سطح پر بیلنس اکنوائزی 300 روپے
e۔ بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن 4.50 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
f۔ مقامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز اصل
g۔ بین الاقوامی سطح پر چارج بیک کی درخواست پر چارجز اصل
h۔ مقامی سطح پر ریٹیل پول کی درخواست پر چارجز اصل
i۔ بین الاقوامی سطح پر ریٹیل پول درخواست پر چارجز اصل

VI۔ پوٹیلٹی بلز اور دیگر ادائیگیوں کیلئے چارجز

A. ڈائریکٹ ڈیبٹ کی سہولت

- a۔ ہر کامیاب ٹرانزیکشن پر 25 روپے

VII۔ پے پاک

- a۔ سالانہ/متبادل 2000 روپے
b. لوکل چارج بیک کی درخواست کے چارجز + اصل
c. لوکل ریٹیل پول درخواست کے چارجز اصل

نوٹ۔ تمام کرنٹ اکاؤنٹس پر پے پاک ڈیبٹ کارڈ پر جاری کرنے/سالانہ تجدید کی فیس معاف کرنے کے لیے، صارفین کو پچھلے/اگلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے۔

(i) نئے اکاؤنٹ ہولڈرز کو اگلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا، جب CPU کی جانب سے اکاؤنٹ کھولا جائے گا۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب اکاؤنٹ کھولنے کے فارم کے ذریعے درخواست دی جائے گی)۔

(ii) موجودہ اکاؤنٹ ہولڈرز کو پچھلے مہینے میں 25,000 روپے کا ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا ہوگا۔ اگر سی پی یو سے درخواست پر کارروائی کے بعد پچھلے مہینے کی مدت (یعنی 30 دن) مکمل نہیں ہوتی ہے تو اگلے مہینے میں ماہانہ اوسط بیلنس برقرار رکھنا چاہیے۔ (یہ اس وقت لاگو ہوگا جب الیکٹرانک درخواست فارم/کال سینٹر کے ذریعے ڈیبٹ کارڈ کے لیے درخواست دی جائے گی)۔

(iii) پے پاک ڈیبٹ کارڈ چارجز ان اکاؤنٹس پر لاگو نہیں ہوں گے جن میں بینک نے چارجز سے استثنیٰ دیا ہے۔

VIII۔ کریڈٹ کارڈ

- a۔ سالانہ۔ پرائمری
- b۔ سالانہ۔ سپلیمنٹری
- c۔ کریڈٹ کارڈ اے پی آر
- d۔ تاخیر سے ادائیگی کی فیس
- e۔ کیش ایڈوانس فیس
- f۔ چیک کے واپس ہونے پر فیس
- g۔ فروخت کی رسید کی حصول کے چارجز (مقامی)
- h۔ فروخت کی رسید کی حصول کے چارجز (بین الاقوامی)
- i۔ غیر ملکی ٹرانزیکشن پر چارجز
- j۔ کریڈٹ کارڈ کے متبادل کی فیس
- IX۔ ایس ایم ایس الرٹ سروس (ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے علاوہ)
- گرمین کارڈ کیلئے 4500 روپے اور گولڈ کارڈ کیلئے 6500 روپے
- گرمین کارڈ کیلئے 2000 روپے اور گولڈ کارڈ کیلئے 3000 روپے
- 25 فیصد سالانہ
- 1750 روپے یا کم از کم واجب الادا ادائیگی کا 10 فیصد، جو بھی زیادہ ہو
- 750 روپے یا 3 فیصد، جو بھی زیادہ ہو
- 750 روپے
- اصل
- اصل
- 4.50 فیصد ٹرانزیکشن کی رقم پر
- 1,600 روپے
- انفرادی اور سول پروپرائٹرز شپ اکاؤنٹس کیلئے فی ماہ فی اکاؤنٹ 200 روپے
- انٹائی اکاؤنٹ کیلئے فی ماہ فی اکاؤنٹ 350 روپے

کیش پیمنٹ سروسز

- a۔ ملک بھر میں کلکیشن سولوشنز (کارپوریٹس/ایس ایم ایز/ایف آئیز کے لیے) معاہدے کے مطابق
- b۔ بلک سیلیریز/ادائیگیاں معاہدے کے مطابق
- c۔ ڈیویڈنڈ وارنٹس کی ادائیگی کا انتظام معاہدے کے مطابق
- d۔ کسٹماؤڈ ایم آئی ایس /رپورٹنگ معاہدے کے مطابق
- e۔ بینکرز ٹودی ایشو/فلوٹیشنز (آئی پی او/ٹی ایف سیز/رائٹ شیئرز وغیرہ) معاہدے کے مطابق
- f۔ دیگر کوئی سروس معاہدے کے مطابق
- g۔ الجیب پیمنٹ سسٹم (بلک پیمنٹس) معاہدے کے مطابق

نوٹ:

- حکومت کی جانب سے لاگو ٹیکسز/حکومتی ڈیوٹیاں ریگیولر چارجز کے علاوہ صارف سے چارجز وصول کئے جائیں گے، جہاں لاگو ہوں۔
- اسلامک بینکنگ کے صارفین پر اسلامک بینکنگ شیڈیول آف چارجز کے مطابق چارجز لگائیں گے۔
- پروسیسنگ کی غلطی کی صورت میں عائد ہونے والے چارجز واپس کر دیئے جائیں گے

UNSC ریزولوشنز کے تحت بلاکڈ/منجمد اکاؤنٹس یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان/قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے جاری کردہ دیگر ایس آر کو کسی بھی قسم کے چارجز میں کسی بھی قسم کی کٹوتی سے مشروط نہیں ہوں گے۔

GEM - ٹیرف شیڈیول

GEM(a) اکاؤنٹ اوپننگ (انفرادی)

انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر 2,000 روپے (بینک کی خدمات کے چارجز کی مد میں 1400 روپے، سی ڈی سی چارجز 400 روپے، یو آئی این چارجز 200 روپے)

GEM(b) اکاؤنٹ اوپننگ (کارپوریٹ)

کارپوریٹ اکاؤنٹ ہولڈر 5,000 روپے

(c) بروکر چارجز

3 پیسہ یا 0.15 فیصد جو بھی زیادہ ہو

GEM(d) فیسیلیٹیشن چارجز

(ہر ایک خرید و فروخت کے سودے پر جو کہ اُسی کاروباری دن میں برابر نہ ہوا ہو)
سیکیورٹی ریٹ کمیشن (شرح) کم از کم زیادہ سے زیادہ

(روپے میں)	(روپے میں)		
0.15	0.01	0.10 فیصد	199.99 تک
0.30	0.15	0.075 فیصد	200 سے 399.99
0.50	0.30	0.05 فیصد	400 سے زیادہ

(e) کسٹومڈیل چارجز

شیرز کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ
ٹی ایف سی 0.1000 فیصد سالانہ
رائٹس کے لئے 0.1000 فیصد سالانہ

(f) نکلوانے کے چارجز

نکلوانے کی فیس (سی ڈی سی چارجز)

شیرز کے لئے 0.10 روپے فی شیر
ٹی ایف سی کے لئے 50 روپے فی یونٹ
رائٹس کے لئے 0.10 روپے فی رائٹ
رائٹ انٹیکلمنٹ ڈپازٹ

شیرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیر/یونٹ/رائٹ

نکلوانے کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز)

(g) جمع کروانے کے چارجز

ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی چارجز)

شیرز کے لئے 0.01 روپے فی شیر

ٹی ایف سی 0.01 روپے فی یونٹ

رائٹس کے لئے 0.01 روپے فی رائٹ

شیرز/یونٹس/رائٹس کے لئے 0.50 روپے فی شیر/یونٹ/رائٹ

شیرز کے لئے 0.010 فی شیر

ڈپازٹ کی کارروائی کی فیس (بینک چارجز)

(h) شیرز کی منتقلی کے چارجز/ان/آؤٹ

(کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے سے 60,000 روپے ہوگی)

شیرز کے لئے 0.004 فیصد فی شیر

(i) شیرز پلچ فیس

(j) NCCPL چارجز

0.0025 فیصد فی شیئر

(k) UIN سالانہ چارجز (پہلے سال لاگو نہیں ہوگی) (NCCPL)

کارپوریٹ اکاؤنٹ 2500 روپے

انفرادی اکاؤنٹ 200 روپے

400 روپے

(ا) انفرادی اکاؤنٹ کیلئے سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھولنے پر سالانہ چارجز

(پہلے سال کیلئے لاگو نہیں) (سی ڈی سی چارجز)

چارجز وقتاً فوقتاً تبدیل ہو سکتے ہیں بینک شیڈول آف چارجز کے مطابق اور یہ اکاؤنٹ ہولڈر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان پر عمل کرے۔

تمام چارجز ناقابل واپسی ہیں جب تک کے بینک اس کے برعکس ظاہر نہ کرے۔

* لاگو حد 3 پیسہ فی حصص یا 0.15% سودے کی رقم پر جو بھی زیادہ ہو 2.5% تک اوپر ظاہر کئے گئے سودوں کی رقم کا۔

الحجیب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ

A. متفرق چارجز

i. بینکرز چیک کا اجراء

ii. چیک بک چارجز

iii. اسپیشلائزڈ/کسٹمائزڈ چیک بک

iv. چیکوں کی اسٹاپ پیمنٹ

v. ایس ایم ایس الرٹ سروس (ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے علاوہ)

vi. کم از کم بیلنس کے چارجز

vii. یوٹیڈی بل/موبائل بل کی ادائیگی

viii. بینک الحجیب کی کسی بھی اکاؤنٹ میں فنڈز کی منتقلی

ix. اے ٹی ایم/انٹرنیٹ بینکنگ/موبائل بینکنگ

450 پاکستانی روپے

25 روپے فی لیف

اصل

700 پاکستانی روپے

200 روپے فی ماہ فی اکاؤنٹ (مقامی)

مفت

مفت

مفت

مفت 25,000 IBFT روپے تک فی مہینہ/فی اکاؤنٹ کے ذریعے انٹرنیٹ بینک فنڈز کی

منتقلی 25,000 روپے سے زیادہ کی اضافی رقم کی ٹرانزیکشن کے لیے فی مہینہ مہینہ

(صرف PKR اکاؤنٹس کے لیے) فی اکاؤنٹ، 0.1 فیصد یا 200 روپے، جو بھی

کم ہو وصول کیا جائے گا۔

500 پاکستانی روپے فلیٹ

300 پاکستانی روپے فی سرٹیفکیٹ

300 پاکستانی روپے فی انسٹرومنٹ

750 پاکستانی روپے فلیٹ

250 پاکستانی روپے فی سرٹیفکیٹ

35 پاکستانی روپے

اضافی 35 پاکستانی روپے فی 6 ماہ

200 پاکستانی روپے

(i) اصل

(ii) اس میں کوریئر کمپنی کے سروس چارجز سمیت کوریئر چارجز کی کٹوتی صارفین کے

اکاؤنٹ سے کی جائے گی۔ 150 پاکستانی روپے

1000 پاکستانی روپے فی پیغام

مفت - تمام بین الاقوامی عہدوں کیلئے

اصل

سوفٹ

xvii. ویلکم بیک ڈیوری

xvii. اگر آرڈی اے کنسائنمنٹ ڈیورنہ ہو سکا اس کے چارجز اور نامکمل پتے پر کوریئر

ہونے/صارف کی عدم دستیابی کی صورت میں چارجز

B. ترسیلات زر - غیر ملکی

ایبرونی

(a) - ڈیمانڈ ڈرافٹس

(b) - ایف ٹی ٹی

(c) - ایف ڈی ڈی کی منسوخی

(d) - ایف ڈی ڈی کی اسٹاپ پیمنٹ

(a) مفت بینک چارجز لاگو ہوں گے

(b) مفت بینک چارجز لاگو ہوں گے

(c) - 10 امریکی ڈالر

(d) - امریکی ڈالر 6 پلس ڈرای بینک چارجز - اصل

نوٹ: درج بالا چارجز کے علاوہ کسی سروس/کوریئر/ڈاک/فیکس/سوفٹ چارجز بھی لئے جب اطلاق ہوتا ہو لئے جائیں گے

II اندرونی

DD/TT/MT - (a)

کوئی نہیں۔

روایتی بینکنگ اکاؤنٹس پر 1 فیصد کمیشن

1000 روپے فی ٹرانزیکشن

1000 روپے فی ماہ

فری

(b) - فارن ٹریولرز چیک کا اجراء

C - انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سیکورٹیز اکاؤنٹ (IPS)

(i) انویسٹر کارپورٹ فولیو سیکورٹیز

(ii) کسٹڈی اکاؤنٹ چارجز

D - اے ٹی ایم

(a) - اے ٹی ایم پن کا دوبارہ اجراء

- (b) اے ٹی ایم سوئچ ٹرانزیکشنز
(i) دوسرے بینک کے اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے پر
(ii) مقامی بیلنس اکوآری چارجز
(iii) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس (آف نیٹ)
(iv) اے ٹی ایم اختیاری رسیدوں کی پرنٹنگ فیس (آن نیٹ)
E. ویزہ ڈیوٹی کارڈ

a۔ سالانہ/متبادل/پرائمری

b۔ سالانہ/متبادل/سپلینٹری

- (c) بین الاقوامی اے ٹی ایم اسے رقم نکلوانے پر
(d) مقامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز
(e) بین الاقوامی چارجز کی واپسی کی درخواست کے چارجز
(f) مقامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز
(g) بین الاقوامی ریٹریول کی درخواست کے چارجز
(h) انٹرنیشنل بیلنس اکوآری چارجز
(i) ویزہ ثالثی چارجز
(j) بین الاقوامی ریٹیل خریداری اور ای کامرس ٹرانزیکشن
(F) الحیب روشن اپنا گھر

(a)۔ پروسیجر فیس

(b)۔ ابتدائی تصدیق فیس/چارجز (مکمل/جزوی)

(c)۔ دیر سے ادائیگی کے چارجز

(d)۔ ناکارہ/واپس کیے گئے چیکس پر چارجز

(e)۔ جائیداد کی تشخیص/تشخیصی چارجز

(f)۔ وکیل کی تشخیص کی فیس

(g)۔ آمدنی کے تخمینے کے چارجز/فیس

(h)۔ دستاویزات اور اسٹیٹمنٹ ڈیوٹی چارجز

(i)۔ کوریئر چارجز (غیر ملکی)

G۔ الحیب روشن اپنی کار

(a)۔ پروسیجر فیس

(b)۔ ابتدائی سیٹلمنٹ فیس/چارجز (مکمل/جزوی)

(c)۔ تاخیر سے ادائیگی کے چارجز

(d)۔ ناکارہ/واپس شدہ چیکس پر چارجز

(e)۔ دوبارہ قبضے کے چارجز (شہر کے اندر اور باہر)

(f)۔ گاڑی کی تشخیص/تشخیصی چارجز

(g)۔ دوبارہ قبضہ شدہ گاڑیوں کی تشخیص/تشخیصی چارجز

(h)۔ قانونی چارہ جوئی/قانونی چارجز

(i)۔ جزوی ادائیگی فیس/چارجز

(j)۔ ذاتی حادثاتی بیمہ

(k)۔ گاڑی کی رجسٹریشن/ٹرانسفر چارجز/سیکیورڈ ٹرانزیکشن رجسٹری (STR)

(l)۔ گودام کے چارجز

(m)۔ کوریئر چارجز (غیر ملکی)

(n)۔ تصدیقی چارجز

23.44 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن
3.13 روپے فی ٹرانزیکشن
4 روپے فی ٹرانزیکشن

پلائیم کارڈ کیلئے 7500 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 4000 روپے، سلور کارڈ کیلئے 2750 روپے

پلائیم کارڈ کیلئے 5000 روپے، گولڈ کارڈ کیلئے 2500 روپے، سلور کارڈ کیلئے 2000 روپے

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4.50 فیصد

اصل

اصل

اصل

اصل

300 روپے

اصل

ٹرانزیکشن کی رقم کا 4.50 فیصد

4,000 روپے

ایک سال کے اندر 1 فیصد، اس کے بعد کوئی چارجز نہیں

تاخیر سے ادائیگی پر فی قسط 900 روپے

750 روپے فی کیس

اصل

اصل

اصل

اصل

اصل

7,000 روپے فلیٹ

کوئی نہیں

تاخیر سے ادائیگی پر فی قسط 1000 روپے

750 روپے فی کیس

100,000 روپے یا اصل میں جو بھی کم ہو۔

اصل

اصل

اصل

کوئی نہیں

کوئی نہیں

اصل

اصل، جہاں قابل اطلاق ہو۔

اصل

اصل

H گیٹ وے ٹوا کیوٹی مارکیٹ (GEM)

GEM (a) اکاؤنٹ کھولنا

(b) بروکر چارجز

GEM (c) فیسیلیٹیشن چارجز

(d) تحویل کے چارجز (مارکیٹ ویلیو)

(e) پیسے نکلوانے کے چارجز
پیسے نکلوانے پر (سی ڈی سی چارجز)

واپسی کی پروسیجرنگ فیس (بینک چارجز)

(f) ڈپازٹ چارجز
ابتدائی ڈپازٹ فیس (سی ڈی سی)

ڈپازٹ پروسیجرنگ فیس
(g) شیئر ٹرانسفر چارجز جمع کرنے یا نکلوانے پر

(h) شیئر پلج چارجز

(i) NCCPL چارجز

(j) UIN سالانہ چارجز (پہلے سال لاگو نہیں)

(k) سی ڈی سی ذیلی اکاؤنٹ کھولنے کے سالانہ انفرادی اکاؤنٹ چارجز
(پہلے سال لاگو نہیں) (سی ڈی سی چارجز)

نوٹ: دیگر تمام فیسوں اور چارجز کے لیے، براہ مہربانی ہمارے بینک کا شیڈول آف چارجز ملاحظہ کریں۔

انفرادی (انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر روپے 2,000 (1400 روپے بینک کے سہولت
کاری چارجز، 400 روپے سی ڈی سی چارجز، 200 روپے یو آئی این چارجز)
کم از کم شرح 3 پیسے یا 0.15 فیصد، جو بھی زیادہ ہو (ہر ایسی خرید و فروخت پر جو اسی
دن کے دوران نہیں کی گئی ہو)

سیکیورٹی ریٹ کمیشن کم از کم زیادہ سے زیادہ
(فیصد میں) (روپے میں) (روپے میں)

199.99 تک 0.10- فیصد 0.01 0.15

200-399.99 0.075 فیصد 0.15 0.30

400 سے زیادہ 0.05 فیصد 0.30 0.50

شیئرز کے لیے 1000.0 فیصد سالانہ

TFCs کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

رائٹس کے لیے 0.1000 فیصد سالانہ

شیئرز کیلئے 0.0-10 روپے فی شیئر۔

TFC کیلئے۔ روپے فی یونٹ 50 روپے

رائٹس کیلئے فی رائٹ 0.10

شیئرز/یونٹس/رائٹس کیلئے 0.50 فی شیئر/یونٹ/رائٹ

شیئرز/یونٹس/رائٹس کیلئے 50.0 فی شیئر/یونٹ/رائٹ

شیئرز کے لیے 0.01 روپے فی شیئر

TFCs کے لیے 0.01 روپے فی یونٹ

رائٹس کے لیے 0.01 روپے فی رائٹ

شیئرز/یونٹس/رائٹس کیلئے 0.50 روپے فی شیئر/یونٹ/رائٹ

شیئرز کے لیے 0.010 فیصد فی شیئر

(کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ فیس بالترتیب 7 روپے اور 60,000 روپے ہوگی)

شیئرز کے لیے 0.004 فیصد فی شیئر

0.0025 فیصد فی شیئر

کارپوریٹ اکاؤنٹ 2500 روپے

انفرادی اکاؤنٹ 200 روپے

400 روپے